





دیکھیں: تحفۃ الاحوذی (336/4).

اور صحیح احادیث میں بھی یہی بیان ہوا ہے جو تاجر حضرات کو فحور کا وصف دینے کے سبب پر دلالت کرتا ہے، وہ یہ کہ تاجر جھوٹی قسم کھا کر، اور وعدہ خلافی کر کے تلمیس اور دھوکہ کرتے ہیں

عبدالرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"یقیناً تاجر حضرات فاجر ہیں"

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا:

کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت حلال نہیں کی؟

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"کیوں نہیں، لیکن جب وہ بات چیت کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور قسمیں اٹھا کر گنہگار ہوتے ہیں"

مسند احمد (428/3) مستدرک الحاکم (8/2) امام حاکم نے اسے صحیح الاسناد قرار دیا ہے، اور مسند احمد کے محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ البانی نے السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر (366) میں اسے صحیح قرار دیا ہے

وگرنہ تجارت تو کمائی کے لیے افضل ترین چیز ہے لیکن اس شخص کے لیے جو اس میں سچائی اور نیکی اختیار کرے، کیونکہ ایک سچائی اختیار کرنے والا امتداد تاجر شخص عظیم اجر و ثواب کا مستحق ہے

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"سچا اور امانت دار تاجر نبیوں اور صدیقوں، اور شہداء کے ساتھ ہوگا"

سنن ترمذی حدیث نمبر (1209) امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حسن ہے، ہم اس طریق کے علاوہ اسے نہیں جانتے

اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی سند کو جید کہا ہے، جیسا کہ المستدرک علی مجموع الفتاویٰ (163/1) میں لکھا ہے

ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"ان سب احادیث کو جمع کرنے میں حالات کی تفصیل ہے: تو ہم کہیں گے کہ:

ہم یہ نہیں کہتے کہ تجارت مطلقاً ہر چیز سے افضل ہے، لیکن تجارت سے یا تو کفایت طلب ہوتی ہے، یا پھر کفایت سے بھی زیادہ کمائی کی جاتی ہے

تو اگر کفایت سے زیادہ مال زیادہ اور جمع کرنے کے لیے کمائی کی جائے، نہ کہ اسے خیر و بھلائی اور صدقات میں خرچ کرنے کے لیے تو پھر یہ تجارت قابل مذمت ہے

کیونکہ یہ دنیا پر متوجہ ہونا ہے جس سے محبت کرنا ہر برائی کی جڑ ہے، اور اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ ظالم اور خائن بھی ہو تو پھر یہ ظلم اور فسق ہے



لیکن اگر وہ اس سے صرف اپنے اور اپنی اولاد کے لیے کفایت طلب کرتا ہے، تو پھر سوال کرنے اور ہاتھ پھیلانے سے تجارت افضل ہے " انتہی

دیکھیں: احیاء علوم الدین للغزالی (79/2).

واللہ اعلم.